

1. Refleksive og resiproke pronomener og adverb

1.7. Øvelser

1) Tilføy **khud**, **āp**, **apne āp**, **āp hī**, **khud hī** eller **khud bakhud** i følgende setningene, og oversett.

- ا - میں خود / آپ گاڑی چلانا چاہتا ہوں -
- ب - حامد نے خود ہی / آپ ہی سارا کام کیا -
- پ - میں خود / آپ اُن سے ملنا چاہتا ہوں -
- ت - اس نے خود / اپنے آپ یہ پیسہ کمایا ہے -
- ٹ - دروازہ خود بخود / اپنے آپ بند ہو گیا -
- ث - پہلے اپنے کو (اپنے آپ کو) شیشے میں دیکھ لو، پھر دوسروں کی غلطی نکالو۔

2. Denominative verb

2.3. Øvelse

Gjør om denominative verb til transitivt.

- ا - کل سارا گھر صاف ہوا —> کل نوکرنے سارا گھر صاف کیا -
- ب - رات کو دروازے کتنے بھے بند ہوتے ہیں؟ —> رات کو چوکیدار دروازے کتنے بھے بند کرتا ہے؟
- پ - چاول کا بھاؤ کم نہیں ہوتا —> دکاندار چاول کے بھاؤ کو کم نہیں کر سکتا ہے -
- ت - اگلے سال یہ کتاب شائع ہو گی —> اگلے سال میں یہ کتاب شائع کروں گا -

2.5. Øvelser

1. Sett inn riktig form av **karnā** i enkelt preteritum.

Mønster:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Jeg ventet på dem. | میں نے اُن کا انتظار _____ —> میں نے اُن کا انتظار کیا - |
| a) Najma passet på barna. | ا - نجمہ نے بچوں کی دیکھ بھال کی - |
| b) Vakten inspiserte bagasjen vår. | ب - گارڈ نے ہمارے سامان کا معائنہ کیا - |
| c) Hamid beskrev sin reise. | پ - حامد نے اپنے سفر کا بیان کیا - |
| d) Legen behandlet pasienten. | ت - ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا - |

2. Bøy ordene i parentes og sett inn.

Mønster:

میں _____ کی کوشش کروں گا —> میں فون کرنے کی کوشش کروں گا
میں وقت پر آنے کی کوشش کروں گا -

میں پاکستان جانے کی کوشش کروں گا -
 میں پاکستان کا سفر کرنے کی کوشش کروں گا -
 میں ریل گاڑی میں سونے کی کوشش کروں گا -

2.6. Øvelse

1. Sett inn riktig form av **karnā** i enkelt preteritum. Til formålet i denne øvelsen bruker du *ikke kā* (~ *kī*), slik at verbet retter seg *ikke* etter substantivet til det denominative verbet.

- a) Najma brukte masse penger på klær. - نجمہ نے کپڑوں پر بہت زیادہ پیسے خرچ کئے -
 b) Vi lett etter nøklene. - ہم نے چاپیاں تلاش کیں -

2. Svar på de følgende spørsmål ved å bruke informasjonen som står i parentes.

- ا - پریم چند کی پیدائش سن ۱۸۸۰ میں ہوئی -
 ب - حامد کی طلاق پچھلے سال ہوئی -
 پ - سنگیتا کی شادی اگلے ہفتے ہو گی -

3. Idiomatisk bruk av **kahī**, **kyā** og **kahā**

3.3. Øvelser

1. Skap tvil i følgende setninger ved å sette inn **kyā**, **kahā** eller **kab** etter subjektet.

Mønster:

- تم بجلی کا بل وقت پر دو گے -> تم کیا بجلی کا بل وقت پر دو گے -
 ا - حامد برتن مانجھے گا -> حامد کیا / کب برتن مانجھے گا -
 ب - سنگیتا یہ کتاب پڑھے گی -> سنگیتا کیا / کب یہ کتاب پڑھے گی -
 پ - ہم شیش محل میں ریس گے -> ہم کہاں شیش محل میں ریس گے -
 ت - چھوٹو کو اچھی نوکری ملے گی -> چھوٹو کو کب / کہاں اچھی نوکری ملے گی -
 ٹ - مستری آج آئے گا -> مستری کیا / کہاں آج آئے گا -
 ث - نورے کا موسم اچھا ہے -> نورے کا موسم کب اچھا ہے -

2. Skap tvil i følgende setninger ved å sette inn **kahī...to nahī**

- پچھلی بس چھوٹ گئی ہے -> کہیں پچھلی بس تو نہیں چھوٹ گئی ؟
 ا - کسی نے میری سائکل چرا لی -> کہیں کسی نے میری سائکل تو نہیں چرا لی ؟
 ب - میری چابی کھو گئی -> کہیں میری چابی تو نہیں کھو گئی ؟
 پ - ہمیں اُن سے کل ملنا چاہئے تھا -> کہیں ہمیں اُن سے کل ملنا تو نہیں چاہئے تھا ؟